

FA Part 1 Home Economics Chapter 7 Online MCQs Test

Sr	Questions	Answers Choice
1	کتنے افراد مل کر تھکن سے بچاؤ کرسکتے ہیں	A. تین افراد مل کر B. چار افراد مل کر C. دو افراد مل کر D. کوئی نہیں.
2	جسمانی کام کے دوران تھکاوٹ کے اثرات کو کم کرنے کا طریقہ	A. توانائی حصول B. ہلکی موسیقی C. وقت کی بچت D. کوئی نہیں
3	جسم کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے کس چیز کا منسلب استعمال کرنا ہوگا	A. آرام کا B. قوت و توانائی کا C. تھکاوٹ کی وجہ سے D. وقت کا
4	کام کے دوران تھکن کو کس طرح دور کیا جاسکتا ہے	A. بائیں کرنے سے B. تھوڑا کام کرنے سے C. چائے سے D. کھانے سے
5	کیسی اشیاء کو ایسی جگہ پر رکھنا چاہیے کہ اس کو اٹھانے کے لیے کم جھکا پڑے	A. کام کے دوران استعمال کرنا B. کام شروع کرنے سے پہلے C. کام مکمل کرنے کے بعد D. کوئی نہیں
6	مبارین نے چار مختلف قسم کے اثرات تحریر کیے ہیں جنہیں	A. اکتاہٹ B. زہنی تھکاوٹ C. تھکن یا تھکاوٹ کا نام D. احساسات
7	تھکن سے جو اثرات پیدا ہوتے ہیں ان میں سے ایک خلص اثر ہے	A. توانائی B. خوشیاں C. ناکامی D. بوریٹ
8	تھکاوٹ مختلف افراد میں کس وجہ سے ہوتی ہے	A. حالات کی رکاوٹ B. انفرادی طور پر C. ایک جیسے حالات کے تحت D. کوئی نہیں
9	مشقت آمیز کام کرنے کے بعد تھکاوٹ سے کیسے بچا جاسکتا ہے	A. تیز کام کرنے سے B. آرام کرنے سے C. ہلکے پھلکے کام کرنے سے D. کوئی نہیں
10	دو افراد کے مل کر کام کرنے سے کس سے بچا جاسکتا ہے	A. آرام B. مشقت C. تھکن سے D. کوئی نہیں
11	کام جب ہماری دلچسپی اور صلاحیت کا نہ ہوتی	A. اکتاہٹ B. نفسیاتی تھکن C. ناکامی کا خوف D. تھکاوٹ زیادہ ہوجاتی ہے
12	کام کے دوران کام زیادہ اور تھکن کم ہوتی ہے	A. بائیں کرنے سے B. میوزک سننے سے C. کھانا کھانے سے D. کوئی نہیں
13	تھکاوٹ کتنے قسم کی ہوتی ہے	A. نفسیاتی B. جسمانی C. زہنی اور جسمانی دونوں D. کوئی نہیں
14	کام کے دوران کس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ تھکاوٹ کم ہوگی	A. احساسات کا B. نشست و برخاست کا C. توانائی کا D. تھکن
15	تھکاوٹ کے اثرات دور کرنے کے لیے بہترین طریقہ	A. کام کرنا B. تھکن کی وجہ سے جو حالات C. تھکاوٹ کی وجہ کو دیکھا جائے D. توانائی خرچ کرنا

16	انسانی ترقی کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے	A. تھکن B. صلاحیت میں زوال C. ناکامی D. توانائی
17	کام کرنے سے جو اثرات پیدا ہوتے ہیں، وہ	A. جسمانی تھکاوٹ B. اکتاہٹ میں اضافہ C. کام کرنے کی صلاحیت میں کمی D. کام کرنے کی صلاحیت میں اضافہ
18	جسمانی تھکن کا اندازہ کرنے کے لیے ضروری ہے	A. وقت کو مدنظر رکھا جائے B. قابلیت کو مدنظر رکھا جائے C. انسان کی عمر اور صحت کو مدنظر رکھا جائے D. کوئی نہیں
19	جسمانی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے	A. چیزوں کا استعمال B. آرام کرنا C. قوت اور توانائی کا صحیح استعمال D. معلومات کا استعمال
20	تھکن کے بارے میں کہا جاتا ہے	A. آرام کرنا B. مختلف اثرات کی نشاندہی کرنا C. وقت کی نشاندہی کرنا D. کوئی نہیں